

برائے فوری اجراء

سٹی مستقبل میں برامپٹن یو (BramptonU) کے لیے بنیادی کام کر رہا ہے

برامپٹن، آن (24 جولائی 2020) – آج، سٹی نے برامپٹن میں ایک مکمل اور معتبر یونیورسٹی لانے کے لیے [اپنی تجویز کے کلیدی عناصر کی جھلک](#) پیش کی۔

پچھلے سال کے دوران، سٹی نے اپنی ذاتی یونیورسٹی، برامپٹن یو (BramptonU) کے منصوبے اور برامپٹن میں بعد از ثانوی تعلیم کے لیے تجویز کیے جانے والے ایک نئے چست اور پرجت ماڈل کے لیے معلومات فراہم کرنے کے لیے اہم فریقین اور بین الاقوامی طور پر جانے مانے تعلیمی اداروں مثلاً رینرسن یونیورسٹی، یونیورسٹی آف گولف ہمبر، دی لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس، کوئین میری یونیورسٹی آف لندن، D2L اور الگوما یونیورسٹی کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔

پچھلے ہفتے اعلان کیا جانے والا، اونٹاریو کے کالجز اور یونیورسٹیوں کے لیے صوبے کا تجدید شدہ [میجر کیپسٹی ایکسپینشن پالیسی فریم ورک](#) اس قسم کی توسیع کا راستہ کھولتا ہے۔

صوبہ اونٹاریو کے پاس اس سال خزاں کے موسم میں جمع کروانے کے لیے ایک مکمل تجویز کی تیاری پر بھی کام جاری ہے:

- صوبہ اونٹاریو کے قانون کے ذریعے ایک خودمختار سرکاری ادارے کے طور پر قائم شدہ، برامپٹن یونیورسٹی کا مقصد 2040 تک 30,000 کے قریب طلباء کے ساتھ ایک مکمل طور پر جامع سرکاری یونیورسٹی بننا ہے۔
- مجوزہ یونیورسٹی کی گورننس کمیٹی میں موجودہ تعلیمی شراکت دار، مقامی حکومت کے اراکین، کاروباری فریقین اور بنیادی اور ثانوی تعلیم کے شراکت دار شامل ہوں گے۔
- پروگرام بڑھتے ہوئے کلیدی شعبہ جات پر مرکوز ہوں گے، بشمول ڈیجیٹل تبدیلی، جدت اور استحکامیت؛ اور ساتھ ہی ساتھ سٹی کے ترجیحی معاشی شعبہ جات کے ساتھ مطابقت رکھیں گے، بشمول: جدید مینوفیکچرنگ، جدت اور ٹیکنالوجی، خوراک اور مشروبات کی تیاری اور صحت و زندگی کی سائنس۔

بعد از ثانوی تعلیم کے موجودہ شراکت داروں بشمول رینرسن یونیورسٹی، الگوما یونیورسٹی اور شیریڈن کالج کے ساتھ اپنے طویل مدتی تعلقات استوار رکھنے کے لیے سٹی پر عزم رہے گا۔ یہ ادارے برامپٹن میں سرمایہ کاری کرنا اور بڑھنا جاری ہیں اور نئے تعلیمی اور معاشی مواقع پیدا کرتے ہیں۔

17 سے 19 اگست تک، میئر پیٹرک براؤن، کونسلر اور سٹی کے حکام ایسوسی ایشن آف مینوسپیٹلٹیز آف اونٹاریو (AMO) کی سالانہ کانفرنس میں ورجنل طور پر شرکت کریں گے۔ کونسل شہر میں کلیدی پراجیکٹس، مثلاً برامپٹن یو (BramptonU) کے لیے فنڈنگ اور اضافی تعاون کی حمایت کرنا جاری رکھے گی۔

برامپٹن یو (BramptonU) کے حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے www.bramptonu.ca ملاحظہ فرمائیں۔

اقتباسات

"پچھلے کچھ مہینوں کے دوران، ملازمتوں کی مارکیٹ اور وہ دنیا، جس میں ہم رہتے تھے، مکمل طور پر بدل چکی ہے – جس نے مستقبل کے لیے ضروری مہارتوں کے حوالے سے گفتگو کو فروغ دیا ہے۔ کینیڈا کے سب سے بڑے اور تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر، یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ برامپٹن کے پاس اپنے مستقبل کے قابل لوگوں کو ترقی دینے میں مدد دینے کے لیے ایک خودمختار یونیورسٹی موجود ہو، جو، خصوصاً اس مشکل وقت میں، ہماری معیشت کی لچک اور کامیابی کا ایک کلیدی حصہ ہیں۔ میں صوبے کی جانب سے بعد از ثانوی تعلیم کے بدلتے ہوئے اور اہم کردار کو پہچانے جانے کو سراہتا ہوں اور اس حوالے سے مزید بات چیت کے لیے پر امید ہوں کہ ہم نے اپنی مستقبل کی افرادی قوت میں کیسے بہترین سرمایہ کاری کرنی ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہم موجودہ طور پر براہ راست دیکھ رہے ہیں کہ کام اور تعلیم، دونوں کے روایتی ماڈل کیسے بدل رہے ہیں۔ ہماری برامپٹن یو (BramptonU) کی تجویز تعلیم فراہم کرنے کے ایک نئے، پر جدت اور قابل استطاعت طریقے پر مبنی ہے، جو بدلتے ہوئے منظر کے مطابق ہے۔ یہ برامپٹن کا اپنا تیار کردہ حل ہمارے قابل لوگوں کو آگے بڑھنے اور انہیں ہماری بڑھتی ہوئی معیشت کے ایک کلیدی حصے کے طور پر بہاں رکھنے میں مدد دے گا۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5، سٹی آف برامپٹن

"ہم جانتے ہیں کہ برامپٹن کے 83% رہائشی ایک برامپٹن یونیورسٹی چاہتے ہیں اور برامپٹن کے 82% رہائشی زیادہ لچکدار یونیورسٹی پروگرام چاہتے ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے اپنے نوجوانوں کے خیالات کو غور سے سنا ہے کہ وہ افرادی قوت کے لیے تیار ہونے کے لیے کس قسم کی تعلیم اور تجربات کی تلاش میں ہیں۔ ان سے سنے جانے والے کلیدی خیالات کو مدنظر رکھ کر اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تعلیمی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بعد، مجھے اعتماد ہے کہ ہم نے ایک جدید حل تلاش کر لیا ہے، جو حقیقی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو مستقبل میں کامیابی کے لیے تیار کرے گا۔"

- ہرکرات سنگھ، سٹی کونسلر، وارڈز 9 اور 10، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کے نوجوان اور بڑھتے ہوئے قابل لوگ ہمارے شہر اور علاقے کی معاشی بڑھوتری اور مسابقتی پن کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ سٹی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مقامی کاروباروں، تعلیمی شراکت داروں، کمیونٹی کے اہم فریقین اور دیگر حکومتی درجات کے ساتھ کام کرنا جاری رکھے ہوئے ہے کہ برامپٹن یو (BramptonU) کے لیے ہمارا منصوبہ ہمارے آجروں اور افرادی قوت کی موجودہ ضروریات اور مستقبل کے مواقع کے لیے موزوں ہو۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca